

60134- ڈیوٹی پر جانے میں مشکل اور نہ جانے والے ایام کی حاضری لگانا

سوال

میں نے جلد ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کا عزم کیا تاکہ میں اس شہر منتقل ہو جاؤں جہاں میرے بیوی بچے اور سسرال رہائش پذیر ہیں، کیونکہ میری ساس بہت زیادہ بیمار ہے اور بیٹی کا قریب ہونا ضروری ہے۔

اور بالفعل میں نے اس شہر میں ایک فلیٹ کرایہ پر لے کر اپنا سامان بھی وہاں منتقل کر دیا اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی درخواست دے ڈالی، لیکن مینجر نے مجھے نصیحت کی کہ کچھ دیر انتظار کر لو کیونکہ میں جس شہر منتقل ہونا چاہتا ہوں وہاں براؤنچ کھولی جا رہی ہے، یا پھر ریٹائر ہونے والوں کے لیے الاؤنس دینے کا سوچا جا رہا ہے۔

تو اس طرح میں نے یہ عرصہ (دو ماہ) ڈیوٹی پر حاضری بہت کم دی، اور جن ایام میں غائب رہا ان کی بھی حاضری لگائی، سوال یہ ہے کہ:

کیا ڈیوٹی پر میری حالت اور میرا ڈیوٹی پر نہ جانا صحیح ہے یا نہیں؟

اور اگر صحیح نہیں تو جن سابقہ ایام کی میں نے بغیر ڈیوٹی کیے حاضری لگائی ہے اس کا حکم کیا ہوگا، کیا میں وہ دو ماہ کی تنخواہ واپس کر دوں تاکہ وہ دفتری ضروریات اور کمپیوٹر وغیرہ خرید لیں کیونکہ آفس کو ان اشیاء کی ضرورت ہے، یا کہ تنخواہ صدقہ کر دوں، یا کیا حکم ہے؟

اور کیا میں ہفتہ میں دو دن حاضر ہو کر باقی ایام کی حاضری لگا دیا کروں؟

پسندیدہ جواب

اول:

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کو ساس اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رغبت رکھنے پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سلسلہ میں جو آپ سفر اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے اور ملازمت چھوڑنے نے اور سفر کی تکلیف اور مشقت برداشت کی ہے اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

دوم:

ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے والے ایام کی حاضری لگا کر آپ حرام کام کے مرتکب ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اس میں جھوٹ اور لوگوں کا مال دھوکہ اور باطل طریقہ سے لگانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ سے نہ لکھاؤ﴾۔ النساء (29).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"یقیناً سچائی نیکی و بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بلاشبہ سچائی جنت کی راہ کی راہنمائی کرتی اور جنت میں داخل کرتی ہے، اور بلاشبہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے تو وہ صدیق بن جاتا ہے، اور یقیناً جھوٹ فسق و فجور کی طرف راہنمائی کرتا ہے، اور بلاشبہ فسق و فجور آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور بلاشبہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جھوٹا اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5629) صحیح مسلم حدیث نمبر (4719).

سوم :

ان ایام کی آپ نے جو تنخواہ لی ہے وہ دفتر والوں کو واپس کرنی واجب اور ضروری ہے، اور اس سے فائدہ حاصل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں کیونکہ یہ حرام مال ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"جو جسم بھی حرام پر پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے"

اسے طبرانی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر (4519) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں حدیث روایت کی ہے :

"جس گوشت نے بھی حرام پر پرورش پائی ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے"

سنن ترمذی حدیث نمبر (614) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

آپ کے لیے اس تنخواہ اور مال کو صدقہ کرنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ صدقہ تو وہ مال کیا جاتا ہے جس کے مالک کا علم نہ ہو، یا پھر اس کے مالک تک پہنچنا مشکل ہو۔

چہارم :

آپ کے لیے ڈیوٹی سے غائب رہ کے ان ایام کی حاضری لگانے کا عمل جاری رکھنا صحیح نہیں، بلکہ آپ کوئی ایسا طریقہ تلاش کریں جس میں آپ پر کوئی گناہ نہ ہو، یا پھر آپ ابھی سے ہی بغیر پنشن وغیرہ حاصل کیے جلد رٹائرمنٹ پر راضی ہو جائیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اور حرام تو برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور حرام مال دنیا و آخرت میں اس کے لیے وبال جان ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے میں سستی کرنے والے، اور حاضری لگانے میں سچائی اختیار نہ کرنے والے شخص کو نصیحت کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ :

"ہر مسلمان شخص پر امانت کی ادائیگی واجب ہے، اور ڈیوٹی اور ملازمت میں خیانت کرنے سے بچنا چاہیے، اور کام پر حاضر ہونے اور چھٹی کے وقت حاضری لگانے میں بھی خیانت مت کرے، ملازم پر واجب ہے کہ وہی وقت لکھے جس پر آیا اور واپس گیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ کر سکے، اور ان ملازمین کے ذمہ دار شخص کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں نصیحت کرے، اور ان کو خیر بھلائی کی طرف راہنمائی کرتا رہے اور انہیں خیانت کرنے سے ڈراتا رہے۔"

اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے "انتہی

ماخوذ از: مجموع فتاویٰ الشیخ ابن باز (356/19).

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راہ کی توفیق نصیب فرمائے۔

واللہ اعلم۔